

میت کے پیوبک ہیرز کاٹنا ضروری ہے یا نہیں  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ  
کیا میت کے پیوبک (Pubic) ہیرز کاٹنا لازمی ہے؟ اور یہ غسل میت کا حصہ  
ہے؟

سائل: ذیشان - لنڈن (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

میت کے پیوبک (Pubic) ہیرز (موئے زیر ناف) کاٹنا یا کسی اور جگہ کے بال مونڈنا  
غسل میت کا حصہ نہیں ہے بلکہ انہیں کاٹنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی  
نے میت کے بال مونڈے تو وہ توبہ کرے اور ان بالوں کو کفن میں رکھ دے جیسا کہ  
درمختار میں ہے - (وَلَا يُسْرَحُ شَعْرُهُ) أَيُّ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا "میت کے بالوں کو نہیں  
مونڈا جائے گا یعنی ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے -

اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ ردالمحتار میں فرماتے ہیں: أَيُّ  
يُكْرَهُ تَحْرِيمًا لِمَا فِي الْفُنْيَةِ مِنْ أَنْ التَّرْيِينَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالْإِمْتِشَاطَ وَقَطْعَ الشَّعْرِ لَا يَجُوزُ نَهْرًا،  
فَلَوْ قُطِعَ ظَفْرُهُ أَوْ شَعْرُهُ أُدْرِجَ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ "میت کے بالوں کا کاٹنا مکروہ تحریمی ہے  
کیونکہ قنہ میں ہے کہ موت کے بعد زینت اختیار کرنا یا کنگھی کرنا یا بالوں کا کاٹنا  
جائز ہے نہیں اگر میت کے بال کاٹے گئے تو اسے کفن میں رکھ دیا جائے۔

("الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنابة، مطلب في القراءة عند الميت، ج ۳، ص ۱۰۴)  
اور بہار شریعت میں ہے کہ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن  
تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا، ناجائز و مکروہ و تحریمی ہے  
بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں، ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو  
تو لے سکتے ہیں اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date4-3-2018

## Is it a must to remove the pubic hairs of a deceased person?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

**What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: Is it essential that one removes the pubic hair of a deceased person? Is this part of washing the deceased?**

Questioner: Zeeshan from London, U.K.

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Removing the public hairs (i.e. the hair from below the navel), or from any other area for that matter, is not a part of washing the deceased. In fact, cutting them is impermissible and makrūh tahrīmī [majorly disliked]. If someone has cut the pubic hair of a deceased person, they must repent. The hairs are to be placed in the shroud, just as it is mentioned in Durr Mukhtār,

"(وَلَا يُسْرَخُ شَعْرُهُ) أَيُّ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا"

"The hair of the deceased will not be removed, meaning doing so is makrūh tahrīmī."

Regarding this, 'Allāmah Ibn 'Ābidīn al-Shāmī, may Allāh ﷺ shower mercy upon him, states in Radd al-Muhtār that,

"أَيُّ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا لِمَا فِي الْفُنْيَةِ مِنْ أَنَّ التَّزْيِينَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَالْإِمْتِشَاطَ وَقَطْعَ الشَّعْرِ لَا يَجُوزُ نَهْرًا، فَلَوْ قُطِعَ ظَفْرُهُ أَوْ شَعْرُهُ  
أُدْرَجَ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ"

"It is makrūh tahrīmī to cut the hair of the deceased because it is stated in al-Qunyah that beautifying, combing or cutting the hair after death is not permissible. If the hair of the deceased was cut [knowingly or unknowingly - as it is not allowed], then it should be placed in the shroud."

[al-Durr al-Mukhtār & Radd al-Muhtār, vol 3, pg 104]

On a further note, it is stated in Bahār-e-Sharī'at that to comb the beard or the hair on the head of the deceased or to clips the nails or to shave off, trim or pluck out hair from anywhere is impermissible and makrūh tahrīmī. The ruling is that he must be buried in the condition in which he is. However, if a nail is broken, then one can

remove this. If the hair or nails were clipped (which is not allowed), then this too must be kept in the shroud.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haider Ali